

21.04.2022

None for the appellant present.

The service appeal pertains to the year 2020 which has been adjourned mostly on the requests of learned counsel for the appellant despite that the case could not be argued at the stage of preliminary hearing. Learned counsel for the appellant is therefore, given last chance to ensure his arguments on the next date. Notices be issued to the appellant and his counsel. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 09.06.2022 before S.B.



(MIAN MUHAMMAD)  
MEMBER(E)

09.06.2022

Junior to counsel for the appellant present.

Lawyers are on general strike, therefore, case is adjourned. To come up for preliminary hearing on 22.07.2022 before S.B.



(Rozina Rehman)  
Member (J)

25.11.2021

Junior of learned counsel for the appellant present.


Former requests for adjournment on the ground that senior counsel is not available today. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 31.01.2022 before S.B.

  
(MIAN MUHAMMAD)  
MEMBER (E)

31.01.2022

None for the appellant present.

Notices be issued to the appellant and her counsel. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 31.03.2022 before S.B.

  
(Mian Muhammad)  
Member(E)

31<sup>st</sup> March, 2022

None present for the appellant. Fresh notices be issued to appellant and her counsel for the date fixed. To come up for preliminary hearing on 21.04.2022 before S.B.

  
CHAIRMAN,

29.03.2021 Nemo for appellant.

Appellant/counsel be put on notice for  
1/7/2021 for preliminary hearing, before S.B.



(Rozina Rehman)  
Member (J)

01.07.2021 Nemo for the appellant.


The record shows that notice, in compliance of order dated 29.03.2021, has not been issued. Office is required to issue fresh notices to appellant and her counsel for preliminary hearing on 29.09.2021 before S.B.



Chairman

29.09.2021 None for the appellant present.

Notices be issued to the appellant and his counsel. Adjourned. To come up for preliminary hearing before the S.B on 25.11.2021.



(MIAN MUHAMMAD)  
MEMBER (E)

25.06.2020


Clerk to counsel for the appellant present and requested for adjournment as learned counsel for the appellant is not available today. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 31.08.2020 before S.B.



MEMBER

31.08.2020


Nemo for the appellant. Notice be issued to the appellant and his counsel. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 22.10.2020 before S.B.



Member (E)

22.10.2020


Since the Members of the High Court as well as of the District Bar Association Peshawar are observing strike today, therefore, the case is adjourned to 30.12.2020 on which date to come up for preliminary hearing before S.B.



(Muhammad Jamal Khan)  
Member (Judicial)

30.12.2020

None for the appellant present.  
Adjourned to 29.03.2021 for preliminary hearing before S.B.




(Mian Muhammad)  
Member(E)

## FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- 336/2020

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	14/01/2020	<p>The appeal of Mst. Nasira Khalil resubmitted today by Mr. Zahidullah Khan Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR 14/01/2020</p>
2-	15/01/20	<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>12/02/2020</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
	12.02.2020	<p>Khali ur Rehman father of the appellant on behalf of appellant present and seeks adjournment as learned counsel for the appellant is not in available being indisposed. Adjourn. To come up for preliminary hearing on 02.04.2020 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> Member</p>
	01.04.2020	<p>Due to public holiday on account of COVID-19, the case is adjourned for the same on 25.06.2020 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> Reader</p>

The appeal of Mst. Nasira Khalil w/o Rifaqat Ali Shah Peshawar received today i.e. on 17.12.2019 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Memorandum of appeal may be got signed by the appellant.
- 2- Copies of charge sheet, statement of allegations, show cause notice, enquiry report and replies thereto are not attached with the appeal which may be placed on it.
- 3- Page no. 8 of the appeal is illegible which may be replaced by legible/better one.
- 4- Annexures of the appeal may be flagged.
- 5- Annexures of the appeal may be attested.
- 6- Two more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.

No. 2292 /S.T,

Dt. 18-12- /2019.

  
REGISTRAR -  
SERVICE TRIBUNAL  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
PESHAWAR.

Mr. Zahid Ullah Khan Adv. Pesh.

*Request for full completion time by  
appellant counsel  
Shahid*

*Dated: 10-1-2020*

*10 days further extended.*

  
10/1/2020

~~with~~ Show cause motion was  
without proper inquiry in appeal was  
committed. file re submit on 2/1/2020  
Jawad

objection No. 1, and 3 to 6 are still stand.  
Be removed & re-submitted within  
10 days.

Jawad  
2/1/2020

=> Complete file re submit on 7/1/2020

Jawad

= Complete file re submit

on 10/1/2020 Jan

BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES  
TRIBUNAL PESHAWAR

In Re S.A 336 /2019

Mst Nasira Khalil

VERSUS

Inspector General of Police KPK & Others

INDEX SHEET

S/ No	Description of Documents	Annexure	Page No.
1.	Ground of Appeal	-	1-5
2.	Affidavit	-	6
3.	Address of Parties	-	7
4.	Appointment Order	"A"	8
5.	Dismissal Order dated 15/1/2008	"AA"	9
6.	Show Cause Notice	"B"	10
7.	Inquiry Reports	"C"	12-16
8.	Departmental Appeal dated 18/11/2019	"D"	18
9.	Other Documents		19-33
10.	Power of Attorney		34-35
11.	Wakalatnama	-	36

Dated: 10/01/2020

Petitioner

Through

Zahidullah Khan

Advocate High Court

Office Add: Ghazi Tower 3<sup>rd</sup> Floor C3 Opp: Shahi Bagh Gate Peshawar

①

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A. 336 /2018

Mst. Nasira Khalil, W/o Rifaqat Ali Shah, R/O. Railway  
Quarters Block 589 Railway Road No.2 Peshawar  
Cantt.

----- (Appellant)

**VERSUS**

1. Inspector General of Police KPK, Peshawar.
2. Superintendent of Police Headquarters Peshawar.
3. Registrar for Inspector General of Police Khyber  
Pakhtunkhwa Peshawar.

----- (Respondents).

**SERVICE APPEAL U/S 4 OF THE KHYBER  
PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT  
1974 AGAINST THE DISMISSAL ORDER  
DATED 15/01/2018 WHEREBY PETITIONER  
WAS AWARDED MAJOR PUNISHMENT OF  
DISMISSAL FROM THE SERVICE, AND HER  
ABSENCE PERIOD WAS TREATED AS  
LEAVE WITHOUT PAY, AND  
DEPARTMENTAL APPEAL WAS DISMISSED  
BEING TIME BARED.**

**Prayer on appeal**

On acceptance of this appeal the dismissal order dated 15-01-2008 and order dated 18-11-2019 passed by the respondent No.2 in departmental appeal may kindly be set aside and petitioner may kindly be restored on service with all back benefits.

**Respectfully Sheweth,**

Appellant submit as under:-

1. That appellant was appointed as constable (Female) vide order 21-02-2002 (copy of appointment order as attached as annexure "A")
2. That the appellant performed her duties efficiently, regularly in the best interest of the department.
3. That appellant was illegally dismissed from service vide order dated 15-01-2008. (Copy of impugned order attached is annexure "AA")
4. That appellant filed a departmental appeal which was not decided on merit and was dismissed being time barred vide order dated 18-11-2019. (Copy of impugned order attached is annexure "U").
5. That aggrieved from the impugned dismissal order dated 15.01.2008 and departmental order dated 18.11.2019, appellant file this appeal on following amongst other grounds inter alia-

**Grounds:-**

- A. That impugned dismissal order dated 15.01.2008 and departmental order dated 18.11.2019 is against the law

and fact, norms of natural justice and material on records hence not tenable and is liable to be set side.

B. That appellant was not treated by the respondents in according with law.

C. That appellant efficiently and regularly performed her duties being a lady constable and without any hurdle she performed her duties on her posted places.

D. That appellant being a lady faced many problems like other ladies in our society in this male dominated society, the serving lady face many problems and hurdles is performing her duties specially in Police Department.

E. That appellant was married on 11.03.2007 with Rafaqat Ali and Nekah was performed on the same date and Nekah nama was registered, it was mentioned in Nekah Nama that the appellant will not be stop from the service and she will continue her service but letter on by force and on the threat of divorce her husband stop the appellant from performing her duties therefore she could not perform her duties due to threat and force of her husband.

F. That Respondent without hearing Appellant passed the impugned dismissal order against her and she was condemned un heard. No show cause Notice was given to the appellant

and all departmental proceeding was taken place in her back therefore the impugned/dismissal order is not warranted by law and liable to be set aside.

G. That petitioner filed departmental appeal against impugned dismissal order and explain all the fact in departmental appeal but facts of departmental appeal was not considered Nor the same was decided on merit, instead of merit the same was dismissed on technical grounds i.e, on time limitation. Hence departmental order dated 18.11.2019 is not warranted by law and liable to be set aside.

H. That husband of appellant is suffering from sever disease and appellant was to serve the department again in this respect she filed departmental appeal which was illegally dismissed.

I. That she was awarded major punishment without hearing her by the respondents and with her free consent she did not make absence from the service but due to above mentioned reason.

J. That other ground will be taken at the time of argument.

(5)  
*It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of the instant appeal, the impugned dismissal order dated 15-01-2008 and order dated 18-11-2019 passed by the respondent No.2 in departmental appeal may kindly be set aside and petitioner may kindly be restored on service with all back benefits.*

Dated : 17/12/2019

*K. Bahar*  
Appellant

Through

Zahidullah Khan  
Advocate, High Court,  
Peshawar

**NOTE:-**

No such like appeal upon the same subject matter has earlier been filed before this Hon'ble Tribunal.

*K. Bahar*  
Advocate.

(6)

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A \_\_\_\_\_/2019

Mst. Nasira Khalil,

**VERSUS**

Inspector General of Police KPK, & Others

----- (Appellant )

**VERSUS**

1. Inspector General of Police KPK, Peshawar.
2. Superintendent of Police Headquarters Peshawar.  
Registrar for Inspector General of Police Khyber  
Pakhtunkhwa Peshawar.

**AFFIDAVIT**

I, Khalil Ur Rehman, S/o Aziz Ur Rehman, R/O Dabgari Railway Road No.2 House No.58-G, Mohallah Railway washing Line Colony Peshawar Cantt., do hereby solemnly affirm and declare that all the contents of the accompanied appeal is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld from this Hon'ble Tribunal.

*Khalil Ur Rehman*  
**DEPONENT**

CNIC#17301-1284616-7

Cell# 03149032816

Identified By:

**Zahidullah Khan**  
Advocate High Court  
Peshawar.

17-12-19

ATTESTED  
Authorised Officer  
Cell Commission  
District Court, Peshawar

(15)

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A \_\_\_\_\_/2019

Mst. Nasira Khalil,

**VERSUS**

Inspector General of Police KPK, & Others

**ADDRESSES OF PARTIES**


**APPELLANT.**

1. Mst. Nasira Khalil, W/o Rifaqat Ali Shah, R/O.  
Railway Quarters Block 589 Railway Road No.2  
Peshawar Cantt.

**RESPONDENTS:**

1. Inspector General of Police KPK, Peshawar.
2. Superintendent of Police Headquarters Peshawar.
3. Registrar for Inspector General of Police Khyber  
Pakhtunkhwa Peshawar

**Dated : 17/12/2019**

  
**Appellant**

Through

**Zahidullah Khan  
Advocate, High Court,  
Peshawar.**





SHOW CAUSE NOTICE

Annexure 5

(10)  
(38)

I Superintendent of Police, Headquarters, Capital City Police, Peshawar as competent authority, under the North West Frontier Provincial Removal From Service (Special Power) Ordinance, 2000 do hereby serve You Lady Constable Nasira Khalil No.4217 of Capital City Police, Peshawar as follows.

1 (i) That consequent upon the completion of enquiry conducted against you by the enquiry officer for which you were given opportunity of hearing.

(ii) On going through the findings and recommendation of the enquiry Officer, the material on record and other connected papers produced before the E.O.

I am satisfied that you have committed the following acts/omissions specified in section 3 of the said Ordinance.

You Lady Constable Nasira Khalil No.4217 while posted at Women Police Station Peshawar sent an application alongwith OPD chit vide yearly No .LRH 0907-099180 dated 24.09.2007 but you were not adopted proper way by producing sick register from the Police Station and then the sick/rest will be sanctioned by the competent authority and subsequently be allowed but she failed to do so and sent the same from home. Being a discipline force, your this act amounts to gross misconduct and against the discipline of the force.

2. As a result thereof, I, as competent authority, have tentatively decided to impose upon you the penalty of major punishment under section 3 of the said Ordinance of sub section 4 of section 5 for absence willfully performing duty away from place of posting.

3. You are, therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.

4. If no reply to this notice is received within 7 days of its delivery, in normal course of circumstances, it shall, be presumed that you have no defence to put in and in that case as exparte action be taken against you.

5. The copy of the finding of the enquiry officer is enclosed.

(MUHAMMAD ALAM SHINWARI)  
SUPERINTENDENT OF POLICE,  
HEADQUARTERS, PESHAWAR

27-11-07  
23/11

Nasira  
Attested by  
Command

No. 131 /PA, SP/HQrs: dated Peshawar the 23/11 /2007.

Copy to Lady Constable Nasira Khalil No.4217 Women Police Station Peshawar.

From: - The Asstt: Superintendent of Police,  
Faqirabad Circle Peshawar.

To: - The Superintendent of Police Head quarters,  
Peshawar.

No. 59 E/ST dated Peshawa the 22 / 11 / 2007.

Subject: - Enquiry against lady constable Nasira Khalil 4217 Women Police station

Memorandum:

Kindly refer to the Endst No.131 E/PA SP Hqrs dated 10-10-2007 on the subject cited above.

The requisite enquiry report along with relevant papers is submitted herewith for the kind perusal and further orders.

Submitted please.

(Abdul Qadir Qamar)  
Asstt: Superintendent of Police;  
Faqirabad Circle Peshawar.

Issue her seal.

5/11/07  
23/11/07

Approved by command

*Annexure "C"*

(12)

(32)

ENQUIRY FINDINGS

This is a departmental enquiry against Lady Constable Nasera Khalil 4217 to the effect that she while posted to Women Police station, sent an application with OPD chit vides yearly No. LRH-0907-090180 dated 24-9-07 for sanctioning one week medical leave with effect from 24-9-2007 to 1-10-2007. However, she did not adopt proper way by producing sick register from Police station. She was absented in DD No. 14 dated 23-9-07 and made her arrival in DD No. 26 dated 1-10-2007 for total period of 9 days. Her act is highly objectionable and amounts to gross misconduct. She was put to departmental enquiry by worthy SP Head quarters, Peshawar. The undersigned was appointed as enquiry officer with reference to the above mentioned allegation.

In order to scrutinize the conduct of the alleged lady Constable, she was summoned time and again vide Parwana No. 3045 dated 26-1-07, 3150 dated 6-11-2007 and last one bearing No. 3239-STF dated 17-11-2007 for recording her statement and personal hearing but she did not turn up. It seems that she is nothing to produce in her defense and deliberately avoiding her appearance before the enquiry officer.

Previous service record of the delinquent lady Constable was checked which revealed that she was enlisted in Police department on 28-02-2002. She has 2 bad entries on account of her absence. There is no substantial punishment on record against her to mention.

The alleged lady constable was sent an application for sanctioning one week medical leave but she did not adopt proper procedure as laid down for medical leave. The alleged lady constable was summoned time and again for recording her statement and personal hearing but she deliberately avoiding her appearance.

Keeping in view her absence and non appearance to the enquiry officer, hence Ex-parte decision is being taken in her absentia and she may be awarded minor punishment and her period of absence be treated without pay.

  
(Abdul Qadir Qamar)  
Asstt: Superintendent of Police,  
Faqirabad Circle Peshawar.

*Asstt. Insp. Peshawar*

(13)  
(83)

**DISCIPLINARY ACTION AGAINST  
LADY CONSTABLE NASIRA KHALIL NO.4217**

I, Superintendent of Police, Headquarters, Capital City Police Peshawar as a competent authority, am of the opinion Lady Constable Nasira Khalil No.4217 rendered himself liable to be proceeded under Section-3 of NWFP, Removal From Service (Special Power) Ordinance 2000.

**STATEMENT OF ALLEGATION**

Lady Constable Nasira Khalil No.4217 while posted at Women Police Station sent an application alongwith OPD chit vide yearly No.LRH 0907-090180 dated 24.09.2007, she <sup>is</sup> not adopted <sup>proper</sup> way by proper <sup>procedure</sup> producing sick register from the Police Station and then the sick/rest will be sanctioned by the competent authority and subsequently be allowed but she failed to do so and sent the same from home. Being a discipline force, her this act amounts to gross misconduct and against the discipline of the force.

For the purpose of scrutinizing the conduct of said accused with reference to the above allegations an enquiry is ordered and Mr. Asst Fagirabad is appointed as Enquiry Officer.

2. The enquiry officer shall in accordance with the provisions of the Ordinance provide reasonable opportunity of hearing to the accused officer, record its finding within 30 days of the receipt of this order, made recommendations as to punishment or other appropriate action against the accused.

3. The accused shall join the proceeding on the date time and place fixed by the enquiry Officer.

(MUHAMMAD ALAM SHINWARI)  
SUPERINTENDENT OF POLICE,  
HEADQUARTERS, PESHAWAR

No. 131 /E/PA, dated Peshawar the 10/10 /2007.

1. Mr. Asst Fagirabad is directed to finalize the aforementioned departmental proceeding within stipulated period under the Rule.

2. Lady Constable Nasira Khalil No.4217

Steno  
Issue charge sheet to  
the defaulter Lady Constable.

Asst Fagirabad  
12-10-07

Asst Fagirabad  
counsel

CHARGE SHEET

(14)

(23)

I, Superintendent of Police, Headquarters, Capital City Police Peshawar as a competent authority, hereby charge you Lady Constable Nasira Khalil No.4217 as follows:

That you Lady Constable Nasira Khalil No.4217 of Capital City Police Peshawar committed the following irregularities:-

You Lady Constable Nasira Khalil No.4217 while posted at Women Police Station sent an application alongwith OPD chit vide yearly No.LRH 0907-090180 dated 24.09.2007 you not adopted <sup>proper</sup> way by proper procedure, sick register from the Police Station and then the sick/rest will be sanctioned by the competent authority and subsequently be allowed but you failed to do so and sent the same from home. Being a discipline force your this act amounts to gross misconduct and against the discipline of the force.

You are, therefore, required to submit your written defence within seven days of the receipt of this charge sheet to the Enquiry Officer committee, as the case may be.

Your written defence, if any should reached the Enquiry Officer/Committee within the specified period, failing which it shall be presumed that have no defence to put in and in that case expartee action shall follow against you.

Intimate whether you desire to be heard in person.

A statement of allegation is enclosed.

*M*  
(MUHAMMAD ALAM SHINWARI)  
SUPERINTENDENT OF POLICE, *Q*  
HEADQUARTERS, PESHAWAR

*Attachment of Complaint*

From: - The Asstt: Superintendent of Police,  
Faqirabad Circle Peshawar.

To: - The Superintendent of Police Hqrs,  
Peshawar.

No. 47 E/ST dated Peshawar the 6 / 9 / 2007

Subject: - Departmental enquiry against Lady Constable Nasira 4217 of  
Women Police Station Line.

Kindly refer to the office Endst No. 343 R- SP Hqrs dated 29-8-2007  
on the subject cited above.

The requisite enquiry report of the above mentioned officials is  
submitted herewith for the kind perusal and further orders.

Submitted please.

  
(Abdul Qadir Qamar)  
Asstt: Superintendent of Police,  
Faqirabad Circle Peshawar.

Issue her SEN

  
S P 100  
619/17

Approved by Council

### ENQUIRY FINDINGS

This is a departmental enquiry against Lady Constable Nasira 4217 to the effect that she while posted to Women Police station Line as lady madad Moharrir, she was directed time and again by lady SIO of women Police station to be punctual and take interest in her legitimate duty but in vain. Besides, she often made wrong entries in Daily diary and unreliable. The lady SIO is not satisfied with her and recommended for disciplinary action. Being a member of disciplinary force her act is highly objectionable and amounts to gross misconduct. The worthy SP Headquarter ordered to probe into the matter.

There are basically two allegations leveled against the lady constable Nasira 4217.

**(i) Late arrival and early departure.**


The undersigned conducted enquiry into this anomaly. Infact there is a difference of about 20/25 minutes between the clock of duty room and watch of lady SIO. This difference creates problem as lady SIO has ordered to carryout all official work according to her watch. The clock was re-set according to lady SIO's watch and when it was verified, there was difference of 12 minutes between clocks time and Pakistan Standard Time.


**(ii) Second allegation against lady Constable is her lack of interest in official duties and affecting wrong entries.**

Lady Constable Nasira 4217 stated that she has some domestic problems and secondly she can not fulfill undue demands of lady SIO that's why she has been victimized. But she failed to substantiate her claim with any solid evidence.

-Keeping the statements and cross examination in view, the undersigned recommends;

1. Removal of Lady Constable Nasira 4217 from Moharrir duties.
2. She may also be awarded minor punishment.

  
(Abdul Qadir Qamar)  
Asstt: Superintendent of Police,  
Faqirabad Circle Peshawar.

  
Accepted by  
Counsel

(17) (10)  
محضر جناب سپڈر جنرل آف پولیس صوبہ خیبر پختونخوا P.O. بی بی


درخواست بلند بحال کرنے ملازمت پر رجسٹرڈ کنڈکٹر شیش

جناب عالی  
میں نے اپنی درخواست محضر وزیر کے سامنے سال 2001ء میں  
قسم پولیس شیش بھرتی جو رسات سال ملازمت دو میں پولیس شیش  
میں نہ میں رجسٹر کرنے کے لیے سال 2008ء میں سالہ کا شجر مونی اسکے  
لکھ خاوند نام سالہ کو مزید ملازمت کرنے سے روک کر بالآخر  
سالہ نے جیو ڈاٹ کام فرسٹ خاوند نام آباد رکھنے کی 99 پر ملازمت رجسٹر  
کی۔ اب سالہ کے تین چھوٹے بچے ہیں جبکہ خاوند نام شملہ  
بہار ہے اس کے قسم نام کاغذ وغیرہ کرنے کے قابل نہیں ہے  
اور بچوں کی نکالت کرنا اور لکھ اخراجات لکھ کرنا ان حالات  
میں سالہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ نیز بہت ملازمت  
عمر سالہ نے بہت انا ندرت اور فرض شناسی سے گزارے  
اور قسم پولیس شیش بھرتی کی رقم نہیں آنے دیا ہے۔ یہ اور کیا کروں؟

میں نے اس کے بارے میں محضر وزیر کے سامنے درخواست دی ہے۔  
خیبر پختونخوا کے پولیس شیش میں دوبارہ بحال کرنے کا  
حکم صادر فرمائیں تاکہ وہ اس کے لیے درخواست دے۔  
09/11/2019

DNO: 2485  
ATR 11/11/2019

پتہ  
7  
AUG 2019



DY NO 18344 18/11/19 S/D/HO 18/11/19 5677/18/11/19 Annam 18

OFFICE OF THE  
INSPECTOR GENERAL OF POLICE  
KHYBER PAKHTUNKHWA  
Central Police Office, Peshawar.

No. S/ 3942 /19, dated Peshawar the 18 / 11 /2019.


To: The Capital City Police Officer,  
Peshawar.

Subject: APPEAL.

Memo:

The Competent Authority has examined and filed the appeal submitted by Ex-Lady Constable Nasira Khalil No. 4217 of CCP Peshawar against the punishment of dismissal from service awarded by Superintendent of Police, HQrs: Peshawar vide OB No. 105. dated 15.01.2008. being badly time barred.

The applicant may please be informed accordingly.

  
(SYED ANIS-UL-HASSAN)  
Registrar.  
For Inspector General of Police,  
Khyber Pakhtunkhwa,  
Peshawar.

Attested by   
1.2.19



# نکاح نامہ

عمرین

تحصیل اٹکانہ

ٹاؤن ایونین

4

وارڈ کا نام

اور صلہ پشاور ریویو کے کالونز اور ننگر پارلیمنٹری بورڈ کے تحت

۲- دولہا اور اسکے والد کا نام معہ ان کی سکونت بالترتیب { رضاقت علی ولد علی اکبر گاؤں جلو تحصیل موہلی مانسیرہ

موسال

۳- دلہن اور اسکے والد کا نام معہ ان کی سکونت بالترتیب { نامہ علیہ بنیہ خلیل الرحمان دکان پنج روپے ریویو کے کالونز ولسٹیک (۱۰) پشاور

۵- آیا دلہن کنواری ہے یا بیوہ یا مطلقہ کنواری

موسال

۷- اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام معہ ولدیت و سکونت { ظہیر ولد الفیہ الدین مکان ۱۴۹۳ ریویو کے کالونز پشاور

۸- دلہن کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام معہ ولدیت و سکونت اور ان کی دلہن کے ساتھ رشتہ داری { خالد خان ولد فیاض خان مرحوم دلاور خان ولد عزیز الدین الرحمان مرحوم

۹- اگر دولہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام معہ ولدیت و سکونت { محمد ولد گوہر الدین گاؤں جلو تحصیل موہلی مانسیرہ

۱۰- دولہا کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام معہ ولدیت و سکونت { علی زمان ولد زاہد الدین گاؤں جلو تحصیل موہلی مانسیرہ گلارہ ولد فضل علی گاؤں جلو تحصیل مانسیرہ

۱۱- شادی کے گواہوں کے نام معہ ولدیت و سکونت { محمد ارشد ولد غلام قادر بکری تحصیل قلعہ صاحب محمد ولد گوہر الدین گاؤں جلو تحصیل موہلی مانسیرہ

۱۲- شادی سرانجام پانے کی تاریخ { ۱۱-۳-۶۷ء

۱۳- مہر کی رقم { ۵۰۰۰۰/-

۱۴- مہر کی کتنی رقم معمل ہے اور کتنی موقوف { عمارتوں سونا بنامہ و شادی سے

۱۵- آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا اگر کیا گیا ہے تو کس قدر { آریا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت فریقین کے مابین طے پائی ہے۔

۱۶- خاص شرائط اگر کوئی ہوں۔ { ناچاقی کی صورت میں ایک ہزار روپے مایوسیہ خواہندہ دینے کا پابند ہوگا۔ لڑکی کو مرضی کرنا پڑے گا۔ میں نوکری کر رہی خواہندہ کے مشورے سے

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين  
الطهارين الطاهرين

- ۱۲- ...
- ۱۱- ...
- ۱۰- ...
- ۹- ...
- ۸- ...
- ۷- ...
- ۶- ...
- ۵- ...
- ۴- ...
- ۳- ...
- ۲- ...
- ۱- ...

۲۱۲

۱۶

بسم الله الرحمن الرحيم ...

(۱۰-۷-۸-۹-۱۰)

۱۰۰



ازدواج میں بیماروں اور نوجوانوں کے لئے (القرآن)

# Muzamil Health Center

# مزمیل ہیلتھ سنٹر

Dr. Ashar Khan

ڈاکٹر اشعر خان

M.B.B.S (Pb) F.C.P.S (Pak)  
Ex house officer PIMS  
Hospital Islamabad  
Ex senior Registrar Jinnah  
Hospital Lahore.

ایم۔ بی۔ بی۔ ایس (پنجاب)  
ایف۔ سی۔ بی۔ ایس (پاکستان)  
سابقہ ہاؤس آفیسر پیمس ہسپتال اسلام آباد  
سابقہ سینئر رجسٹرار جناح ہسپتال لاہور

0315-5577717

نزد عثمانیہ روڈ ملین چوک مندر شہینہ

Name M. Farooq - Age            Sex            Date 12-10-19

C/O

Rx

Flu  
Case of  
O/E Tibia  
to Fibula  
#  
mouth

Xray Show  
# positions acceptable  
Callus formation good

Adv: Remove POP  
and Reapply Gypsum  
Cast.

پریمیز:-  
Adv:  
Xray (1st day)  
O/E  
ہدایت:-

Rx  
Tab Diaganil P  
- 2-2-2  
Tab Osmic D  
- 2-2-2  
Tab Sang D

صوبہ ہندوستان کے ایک اور شہر  
میں روزانہ ہونے والے  
- 2-2-2

Adv: Rest for one month

اورجینل بارود مارول ڈیون الراجی شہادہ (المران)

# Muzamil Health Center

# موزمل ہیلتھ سنٹر

Dr. Ashar Khan

ڈاکٹر اشعر خان

M.B.B.S (Pb) F.C.P.S (Pak)  
Ex house officer PIMS  
Hospital Islamabad  
Ex senior Registrar Jinnah  
Hospital Lahore.

ایم۔ بی۔ بی۔ ایس (پنجاب)  
ایف۔ سی۔ بی۔ ایس (پاکستان)  
سابقہ ہاؤس آفیسر پیمس ہسپتال اسلام آباد  
سابقہ سینئر رجسٹرار جناح ہسپتال لاہور

0315-5577717

نزد عثمانیہ ہوسٹل بین چوک عطر شیشہ

Name M. Farooq Age            Sex            Date 12-11-19

C/O

Rx

Flu case  
Tibia fibula #  
2 month

O/E

Advs  
Kray (blef)  
Ap/let

Tas Paded  
Tas Xstob  
Tal, osmit

پریپیون  
ڈاکٹر مسیاحی (گھوڑ) ورنہ 15  
ہدایت:-

Advs Ken for one month

(صاف صاف)  
آئینہ

Mu



### OPD Prescription form

Name : RAFAQAT ALI  
 Father Name : ALI AKBAR  
 Husband Name :  
 Age : 38 Year(s) 00 Month(s) 0 Day(s)  
 Patient Type : ACUTE EMERGENCY

Room No : 252  
 Department : EAR CLINIC (25)  
 Date : 26-OCT-19 10:22:01  
 Dept Fee : 10  
 User : MUHAMMAD QAISAR  
 MRNO : K04ACE19493001  
 Invoice No : K04192023323  
 Sex : Male

Investigation

Hx of R/OA - 45 days

Pain in Rt foot

Adm

Digital X ray Rt foot.   
 Base of 5<sup>th</sup> met  of True AP  
 initially treated by bone setter. True lat





**KING ABDULLAH TEACHING HOSPITAL**  
**MANSEHRA**  
**A & E Department**

(17) (20) (27)

Patient Name: RAFAQAT ALI

Age

Gender:

Invoice No 118681

RTA/MLC No.:

Weight

Date 06 Dec 19

Contact Address

Known Allergies:

Time 05:16 PM

Presenting Complaints

Rx

Name of Drug	Dosage	Strength	Frequency	Remarks
	Period	Qty	Route	

→ ORTHO DRUG

Investigations

Reason For Referral

Went to ...

Stamp & Signature of Prescriber

Patient Name:

Home Treatment

B.P.:

Temp:

Pulse:

GCS:

ALTOCAMB

(17)

Signature



Haematology Report

MRNO : K04-00001985557

Name : RAHIM ALI

Age/Sex : 04 Year(s)/Male

Address : , ABBOTTABAD - PAKISTAN

Ordered By :

In-house Consultant : Abdul Aziz Khan

Report Destination : Main Reception

Requested : 03-AUG-2019 10:07:41

Specimen Received : 03-AUG-2019 10:20:28

Reported : 03-AUG-2019 12:32:54

Hematology - Misc

TEST(s)	NORMAL RANGE(s)	UNIT(s)	K04HEM191271 78 03-AUG-19 12:32:54
ESR	0 - 15	mm/1st hr	64

Note : Lab values should always be correlated with clinical picture. Normal Range(s) and Unit(s) shown are for most recent results.

AQEEL AHMAD  
Sr. Medical Technologist

Electronically verified report, no signature(s) required.



VIEW: 03-Aug-2019 12:41:06

Microbiology Report

Page 1 of 1

Dept Ref# : K04MIC19112478

MRNO : K04-00001985557

Name : RAHIM ALI

Age/Sex : 04 Year(s)/Male

Address : , ABBOTTABAD - PAKISTAN

Ordered By :

In-house Consultant : Abdul Aziz Khan

Report Destination : Main Reception

Requested : 03-AUG-2019 10:07:41

Specimen Received : 03-AUG-2019 10:20:28

Reported : 03-AUG-2019 11:49:24

Rheumatology Panel

SPECIMEN : SERUM

TEST(s)

RESULT(s)

C-Reactive Protein

POSITIVE

COMMENTS:

C-Reactive Protein In Patients' Sera Has Been Found In Association With Acute Infections, Necrotic Conditions And A Variety Of Inflammatory Disorders. There Is A Strong Correlation Between Serum Levels Of Crp And The Onset Of The Inflammatory Process. Monitoring Of The Crp Levels In Patients' Sera Indicates The Effectiveness And The Assessment Of The Patient Recovery.

However, A Diagnosis Should Not Be Made On The Results Of A Single Test But On A Correlation Of Clinical Details And Other Laboratory Findings.

Khalid Hussain  
Sr. Medical Technologist

Electronically verified report, no signature(s) required.

DR. NAEEMA AFZAL  
MBBS, M.Phil Chemical Path  
Head of Pathology

DR. MUHAMMAD IDRESS  
MBBS, FCPS Clinical Hematology

DR. SHABANA NAZ  
MBBS, FCPS (Histopathology)  
Assistant Professor Pathology

DR. SHAGUFTA NAEEM  
MBBS, FCPS (Histopathology)

DR. FIAZ AHMAD  
MBBS, FCPS-1, M.Phil

DR. ANILA RIYAZ  
MBBS, FCPS (Histopathology)

DR. ROMANA IRSHAD  
MBBS, M.Phil (Hematology)  
Associate Professor Hematology  
Consultant Hematologist

DR. RUBINA FAISAL PAUL  
MBBS, Endocrinologist, Junior  
Consultant, Chemical Pathology

# MEDICAL TEACHING INSTITUTION ABBOTTABAD

Ayub Teaching Hospital. Phone: 0992-380813, Fax: 0992-380328  
Email: info@ath.gov.pk, Website: www.ath.gov.pk



VIEW: 03-Aug-2019 12:41:07

## Microbiology Report

Page 1 of 1

Dept Ref# : K04MIC19112478

MRNO : K04-00001985557

Name : RAHIM ALI

Age/Sex : 04 Year(s)/Male

Address : , ABBOTTABAD - PAKISTAN

Ordered By :

In-house Consultant : Abdul Aziz Khan

Report Destination : Main Reception

Requested : 03-AUG-2019 10:07:41

Specimen Received : 03-AUG-2019 10:20:28

Reported : 03-AUG-2019 11:49:04

**SPECIMEN** : Blood (Serum)

**TEST(s)**

ASO (Qualitative)

**RESULT(s)**

Negative

**Khalid Hussain**  
Sr. Medical Technologist

**Electronically verified report, no signature(s) required.**

DR. NAEEMA AFZAL  
MBBS, M.Phil Chemical Path  
Head of Pathology

DR. MUHAMMAD IDRESS  
MBBS, FCPS Clinical Hematology

DR. SHABANA NAZ  
MBBS, FCPS (Histopathology)  
Assistant Professor Pathology

DR. SHAGUFTA NAEEM  
MBBS, FCPS (Histopathology)

DR. FIAZ AHMAD  
MBBS, FCPS-1, M.Phil

DR. ANILA RIYAZ  
MBBS, FCPS (Histopathology)

DR. ROMANA IRSHAD  
MBBS, M.Phil (Hematology)  
Associate Professor Hematology  
Consultant Hematologist

DR. RUBINA FAISAL PAUL  
MBBS, Endocrinologist, Junior  
Consultant Chemical Pathology

# MEDICAL TEACHING INSTITUTION ABBOTTABAD

Ayub Teaching Hospital. Phone: 0992-380813, Fax: 0992-380328  
Email: info@ath.gov.pk, Website: www.ath.gov.pk



VIEW: 03-Aug-2019 12:41:08

## Haematology Report

Page 1 of 1

MRNO : K04-00001985557  
Name : RAHIM ALI  
Age/Sex : 04 Year(s)/Male  
Address : , ABBOTTABAD - PAKISTAN

Ordered By :  
In-house Consultant : Abdul Aziz Khan  
Report Destination : Main Reception  
Requested : 03-AUG-2019 10:07:41  
Specimen Received : 03-AUG-2019 10:20:28  
Reported : 03-AUG-2019 10:56:31

### CBC

TEST(s)	NORMAL	UNIT(s)	
			K04HEM191271 78 03-AUG-2019 10:56:31
WBC	4 - 11	x10.e 3/ $\mu$ l	19.8
RBC	4 - 6	x10.e 6/ $\mu$ l	4.44
HGB	11.5 - 17.5	g/dL	11.3
HCT	36 - 54	%	31.7
MCV	76 - 96	fL	71.3
MCH	27 - 33	pg	25.5
MCHC	33 - 35	g/dL	35.6
%RDW-CV	11.5 - 14.5	%	15.3
PLT	150 - 400	x10.e 3/ $\mu$ l	377
MPV	7.2 - 11	fL	7.3
%Neut	40 - 75	%	68.2
%LYMP	20 - 45	%	28
%MONO	2 - 10	%	3.8
#NEUT	1.9 - 8	x10.e 3/ $\mu$ l	13.5
#LYMP	0.9 - 5.2	x10.e 3/ $\mu$ l	5.5
#MONO	0.16 - 1	x10.e 3/ $\mu$ l	0.8

Note : Lab values should always be correlated with clinical picture.  
Normal Range(s) and Unit(s) shown are for most recent results.

**Aqeel Ahmad**  
Sr. Medical Technologist

Electronically verified report, no signature(s) required.

DR. NAEEMA AFZAL  
MBBS, M.Phil Chemical Path  
Head of Pathology

DR. MUHAMMAD IDRESS  
MBBS, FCPS Clinical Hematology

DR. SHABANA NAZ  
MBBS, FCPS (Histopathology)  
Assistant Professor Pathology


DR. SHAGUFTA NAEEM  
MBBS, FCPS (Histopathology)

DR. FIAZ AHMAD  
MBBS, FCPS-1, M.Phil

DR. ANILA RIYAZ  
MBBS, FCPS (Histopathology)

DR. ROMANA IRSHAD  
MBBS, M.Phil (Hematology)  
Associate Professor Hematology  
Consultant Hematologist

DR. RUBINA FAISAL PAUL  
MBBS, Endocrinologist, Junior  
Consultant, Chemical Pathology



HEALTH CARE  
LABORATORY

Center of Excellence for Diagnosis of Diseases

Name: RAHIM	Sex: MALE	Age: *** Years
Referred By: ATH	Date: 03/08/19	Time: 11:38:27
Investigation Reqd: BLOOD FOR ANA	No.	1807

TEST REPORT

ANA ----- NEGATIVE

Not Valid For Court

Signature

Ground Floor, Al-Haider Market Opp. Gate No. 3 INOR Cancer Hospital, Abbottabad  
Cell: 0345-9995911

(35)

(26)



# AYUB TEACHING HOSPITAL ABBOTTABAD



## FILTER OUT PATIENT DEPARTMENT

20218

B.Code No: \_\_\_\_\_ Book No: \_\_\_\_\_

Patient Name: \_\_\_\_\_ M.R No: \_\_\_\_\_

Patient Sex: \_\_\_\_\_ Patient Yearly No: K04000108557

Patient Age: \_\_\_\_\_ Date & Time: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_ O.P.D: 07-08-2019 09:40:45

Amount: \_\_\_\_\_ Computer Operator: HEADS-B - OPD

Developer

FORM 100

11/1/19

4y

4c

Fever  
Joints pain ] 3 days

Rx

20/E

Joints non  
tender,  
no warmth.

Syp Ce20K DS

Pallex  
mildly congested

(E25) 1 1/2, 3/4

Syp Calpol

(E33) 5/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2


⇒ Syp acefyll

(E25) 3/1 + 1/1

Adv

- o CBC
- o ESR
- X o ANA.
- o ASO titer
- o CRP.

8



## مختار نامہ

بعد الت جناب سرورین بریلوئی صاحب مختار نامہ

مایانکہ صہاۃ نامہ حلیہ زریہ مصلحت علی مسکن تیار کنڈ

ساکنان - چار کنڈ

اختیار دہندہ - صاحب نامہ حلیہ - بذریعہ تحریر ہذا مقرر ہونکہ بعنوان بالا مقدمہ میں من اختیار دہندہ کی حیثیت

اپیلرٹ کی ہے چونکہ بوجہ زوریہ مصلحت مقرر مقدمہ ہذا کی پیروی سے قاصر ہوں اسلیجے بدیں وقت

مسی خلیل الرحمن و لور علیہ الرحمن کو اپنی جانب سے مختار خاص مقرر کر کے اختیار دیتا ہوں کہ مختیار دہندہ مذکور کی جانب سے میری غیر موجودگی میں مقدمہ بعنوان بالا میں جملہ کاروائی بذات خود وہ دستخط خود سر انجام دیوے، درخواست گزارے، نقولات مقدمہ حاصل کرے، تائید و تردید تصدیق کرے، جواب دعویٰ، وغیرہ پیش کرے ثابت مقررے کرے، راضی نامہ کرے، راضی نامہ پیش کرے، گواہان پیش کرے، اپیل کرے، نگرانی کرے، نظر ثانی کرے، وکیل یا ایئر سٹر مقرر کرے غیر ضیکہ من جن جگہوں پر میری ذات و دستخطوں کی ضرورت پڑے مختار خاص موصوف کا جملہ ساختہ مثل کردہ کہ ذات و خاص کے مجھے بمثل خود قبول و منظور ہوگا۔

لہذا مختار نامہ رو بروئے گواہان حاشیہ سند تحریر شد۔

العبد: اختیار دہندہ

العبد: اختیار دہندہ گریئہ

صہاۃ نامہ حلیہ زریہ مصلحت علی مسکن تیار کنڈ

Nic No - 17301-25785-8

العبد: اختیار دہندہ گریئہ

العبد: اختیار دہندہ

العبد: اختیار دہندہ گریئہ  
حلیہ الرحمن و لور علیہ الرحمن  
Nic No - 17301-128436167  
العبد: اختیار دہندہ گریئہ

گواہ نمبر 17301-1466492-1714


Kashif Rehman  
گواہ نمبر 17301-4611527-1714

22.11.2019

District Comptroller of Accounts  
22 NOV 2019  
Treasurer Peshawar

Handwritten signature

PESHAWAR TREASURY  
ILYAF AHMED S. VENDOR  
LIC NO. 4101. 25/01/2017



## مختیار نامہ

بعدالت جناب

مایانکہ

ساکنان

اختیار دہندہ ----- بدگریعہ تحریر ہذا مقرر ہونکہ بعنوان بالا مقدمہ میں من اختیار دہندہ کی حیثیت

کی ہے چونکہ بوجہ ----- من مقرر مقدمہ ہذا کی پیروی سے قاصر ہوں اسلیئے بدیں وقت

مسکی ----- کو اپنی جانب سے مختار خاص مقرر کر کے اختیار دیتا ہوں کہ مختیار دہندہ مذکور کی جانب

سے میری غیر موجودگی میں مقدمہ بعنوان بالا میں جملہ کاروائی بذات خود بہ دستخط خود سر انجام دیوے، درخواست گزارے، نقولات مقدمہ

حاصل کرے، تائید و تردید و تصدیق کرے، جواب دعویٰ، وغیرہ پیش کرے ثابت مقررے کرے، راضی نامہ کرے، راضی نامہ پیش کرے،

گواہان پیش کرے، اپیل کرے، نگرانی کرے، نظر ثانی کرے، وکیل یا پیر سٹر مقرر کرے غیر ضیکہ من جن جگہوں پر میری ذات و دستخطوں

کی ضرورت پڑے مختیار خاص موصوف کا جملہ ساختہ مثل کردہ کہ ذات و خاص کے مجھے بمثل خود قبول و منظور ہوگا۔

لہذا مختیار نامہ رو بروے گواہان حاشیہ سند تحریر شد۔

العبد: اختیار دہندہ گریندہ

العبد: اختیار دہندہ

العبد: اختیار دہندہ گریندہ

العبد: اختیار دہندہ

العبد: اختیار دہندہ گریندہ

العبد: اختیار دہندہ

العبد: اختیار دہندہ گریندہ

العبد: اختیار دہندہ

گواہ نمبر ۲

گواہ نمبر ۱

المقوم





"A"

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR. PB

No.

APPEAL No.....336..... of 20 20

Mst: Nasira Khalil

Appellant/Petitioner

Versus

Inspector General CF Police KPK Peshawar  
RESPONDENT(S)

✓  
Notice to Appellant/Petitioner

Mst: Nasira Khalil w/o

Rifaquat Ali Shah R/o Railway Quarters

Block 589 Railway Road No.2 Peshawar  
cantt:

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing,  
replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal  
on.....22/10/2020..... at.....9 am.....

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said  
place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing  
which your appeal shall be liable to be dismissed in default.



Registrar,

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

"A"

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD, S.B  
PESHAWAR.

No.

APPEAL No. 336 of 20 20

Mst. Nasira Khalil

Appellant/Petitioner

Versus

Inspector General of Police KPN Peshawar

RESPONDENT(S)

Notice to Appellant/Petitioner

Mst. Nasira Khalil  
w/o Rifaayat Ali Shah R/o Railway  
Quarters Block 589 Railway Road No. 2 Peshawar  
Canada

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on 25/11/21 at 9 am

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

Registrar,

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

“A”

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR. SB

No. (Reg)

APPEAL No.....336..... of 20 20

Nasira Khalid

Appellant/Petitioner

Versus

16 Police, Kpk, Peshawar

RESPONDENT(S)

Notice to Appellant/Petitioner Mst. Nasira Khalid w/o  
Rifaqat Ali Shah, 40 Railway Quarters Block  
589 Railway Road No-2 Peshawar Cantt.

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on 31/3/2022 at 9:00 am

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

[Signature]  
Registrar,  
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

**"A"**

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,  
PESHAWAR. S B

No.

Regd  
I

APPEAL No.....336..... of 20 20

Mst Nasira Khalil

Appellant/Petitioner

Versus

I-C-P KPK Peshawar

RESPONDENT(S)

Notice to Appellant/Petitioner Mst Nasira Khalil, w/o Rifaqat  
Ali Shah R/o Railway Quarters Block 589  
Railway Road No.2 Peshawar

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing,  
replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal  
on 09/06/2022 at 9.00 AM

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said  
place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing  
which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

Registrar, u

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.

“A”

**KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**  
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD, S.B  
PESHAWAR.

No.

Recd  
1/6

APPEAL No..... 336 ..... of 2020.

Mst Nasira Khalil

Appellant/Petitioner

Versus


I.G.P. KPK Peshawar

RESPONDENT(S)

Notice to Appellant/Petitioner ✓ Mst. Nasira Khalil, w/o Rifayat  
Ali Shah R/o Railway Quarters Block 589  
Railway Road No.2 Peshawar.

Take notice that your appeal has been fixed for Preliminary hearing, replication, affidavit/counter affidavit/record/arguments/order before this Tribunal on 01/6/2022 at 9:00 AM

You may, therefore, appear before the Tribunal on the said date and at the said place either personally or through an advocate for presentation of your case, failing which your appeal shall be liable to be dismissed in default.

  
Registrar,

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,  
Peshawar.